

12191 - سورہ البقرہ 1731؛ البقرہ 1731؛ ک 1740؛ آ 1740؛ ت م 1740؛ ن 1740؛ خادعون  
اللہ { کا معن 1740؛ ک 1740؛ ا ہے ؟

سوال

سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں کی تفسیر کیا ہے ؟  
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ العلیٰ المجید کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے ؟  
اور یہ بھی کہ کیا آپ اس امریکی کو کوئی نصیحت کر سکتے ہیں جو سمندر پار ممالک میں اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں رغبت رکھتا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں :

وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی جو ایمان وہ ظاہر کر رہے ہیں اس کے اظہار کے ساتھ باوجود اس کہ وہ اپنے باطن میں کفر چھپائے ہوئے ہیں ، اور اپنی جہالت کی بنا پر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ کام ان کے ہاں بہت ہی نفع مند ہے ، اور وہ اسے اللہ تعالیٰ پر بھی مبہم ہی رہے گا جس طرح کہ کچھ مومنوں پر مبہم ہو چکا ہے - جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

جس دن اللہ تعالیٰ سب ان سب کو اٹھا کھڑا کریگا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں ( اللہ تعالیٰ ) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی (دلیل ) پر ہیں یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں -

تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتقاد پر اس کے مقابلہ میں فرمایا وہ تو صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں یعنی وہ کسی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور اور سمجھ نہیں آرہی ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا :

بیشک منافق اللہ تعالیٰ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں ان چالبازیوں کا بدلہ دینے والا ہے اور کچھ قرآء کرام

# اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:  
شیخ محمد صالح المنجد

نے اس طرح پڑھا ہے وما یخدعون الا انفسہم دونوں قراتوں کا معنی ایک ہی ہے ۔

ہم اسلامی تعلیم میں رغبت رکھنے والے امریکی کو یہ نصیحت کرینگے کہ وہ خواہشات کو چھوڑ کر انصاف کو اپنائے ، اور دشمنان اسلام کی اسلام کو بدنام کرکے پیش کرنے کی کوشش سے بچ کر رہیں ، اور اسلام کو صحیح اور صاف شفاف مصادر سے سیکھنے کی حرص رکھیں اور کوشش کریں ۔

تو اسلام ان فرقوں سے حاصل نہ کریں جو کہ بدعات اور نئے نئے کاموں سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مثلاً قادیانی اور احمد فرقہ اور شیعہ اور صوفی فرقہ اور پیر پرست فرقوں اور تقلید میں تعصب کا شکار فرقے وغیرہ ، تو ان سب فرقوں نے اسلامی دعوت کو اپنی بدعات کے ساتھ خراب کرکے رکھ دیا ہے ، تو ان کے افعال اور اقوال کو اسلام نہ سمجھ لیا جائے بلکہ اسلام وہی ہے جو کتاب اللہ (قرآن مجید) اور سنت رسول ( صحیح احادیث ) ہیں ۔

اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کے طلبگار ہیں ۔ ۔